



فتح مکہ کے بعد ہجرت (مکہ سے مدینہ کے لیے) باقی نہیں رہی البتہ حسن نیت اور جہاد باقی ہے اس لیے جب تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے، تو فوراً نکل کھڑے ہو

عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے دن فرمایا: ”فتح مکہ کے بعد ہجرت (مکہ سے مدینہ کے لیے) باقی نہیں رہی البتہ حسن نیت اور جہاد باقی ہے اس لیے جب تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے، تو فوراً نکل کھڑے ہو“ فتح مکہ کے دن آپ ﷺ نے فرمایا: جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، اسی دن سے اس نے اس شہر کو حرمت والا بنایا ہے چنانچہ اللہ کی دی گئی حرمت کی وجہ سے وہ قیامت کے دن تک کے لیے حرمت والا ہے مجھ سے پہلے اس میں کسی کے لیے قتال کرنا حلال نہیں تھا میرے لیے صرف دن کی ایک گھڑی کے لیے حلال ہوا اب یہ دوبارہ اللہ کی دی گئی اللہ کی حرمت کی وجہ سے قیامت کے دن تک کے لیے حرمت والا ہو گیا ہے تو اس (میں موجود کسی درخت) کا کانٹا اکھاڑا جائے گا، نہ اس کے شکار کو بھگایا جائے گا اور نہ ہی اس میں گری پڑی چیز کو اٹھایا جائے گا، سوائے اس شخص کے جو اعلان کرتے ہوئے (مالک تک پہنچانے کے ارادے سے) اسے اٹھائے اور نہ ہی اس کا گھاس کاٹا جائے گا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: یا رسول اللہ! سوائے اذخر گھاس کے یہ لوگوں کی بھٹیوں اور ان کے گھروں کی ضرورت ہے آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں سوائے اذخر گھاس کے

[صحیح] [متفق علیہ]

عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بتا رہے ہیں کہ نبی ﷺ نے فتح مکہ کے دن خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: لا ہجر ہے یعنی مکہ سے مدینہ کی طرف اب ہجرت فرض نہیں ہے؛ کیوں کہ اب یہ اسلامی علاقہ بن چکا ہے تاکہ جہاد کی فرضیت ہنوز باقی ہے آپ ﷺ نے حکم دیا کہ جس سے جہاد پر جانے کے لیے کہا جائے، وہ اللہ، اس کے رسول اور حکمران کی اطاعت میں جہاد کے لیے نکل کھڑا ہو پھر آپ ﷺ نے مکہ مکرمہ کی حرمت بیان کی اور فرمایا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش کی ہے، تب سے یہ حرمت والا ہے اور یہ کہ نبی ﷺ سے پہلے یہ کسی کے لیے حلال نہیں ہوا اور نہ ہی آپ ﷺ کے بعد کسی کے لیے حلال ہو گا آپ ﷺ کے لیے صرف دن کے کچھ وقت کے لیے حلال ہوا تھا، بعد ازاں اس کی حرمت لوٹ آئی آپ ﷺ نے مکہ کی حرمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ نہ تو حرم میں موجود کوئی کانٹا اکھاڑا جائے گا، نہ اس میں موجود شکار کے جانوروں کو بھگایا جائے گا اور نہ ہی اس میں کسی گری پڑی چیز کو اٹھانا کسی کے لیے جائز ہے؛ سوائے اس شخص کے جو لوگوں کو آگاہ کرتے ہوئے اسے اٹھائے (تا کہ اسے مالک تک پہنچا سکے) اور نہ ہی اس میں موجود چارے اور سبز گھاس وغیرہ کاٹی جائے تاکہ مکہ کی مصلحت کے پیش نظر آپ ﷺ نے اس حکم سے اذخر گھاس کو مستثنیٰ کر دیا کیوں کہ لوہار اپنے کام کی خاطر آگ جلانے کے لیے اس کا استعمال کرتے تھے



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

